

# - اخْتَارِ الْأَمْرَ-

81

دبوہ ۲۵ جولائی۔ مسیدہ حضرت خلیفۃ المسیح الشان ایامِ اٹھاڑے نے بغیر الغیر کی محنت کے متلوں مردی سے آج بھی کوئی تانہ اطلاع موصول نہیں ہے۔ اجاتب حضور ایامِ اٹھاڑے بغیر الغیر کی محنت سلطانی اور درا فیفا غیر کے لئے اقسام سے دعا پر مباری رکھیں ہے۔  
دبوہ ۲۵ جولائی۔ حضرت مزا بشیر احمد صاحب مذکور بالخاصی کی ملیست کلم ضرا کے فعل سے نسبتاً بہتر نہیں۔ حادثت یعنی کلم روپی۔ الحادثات کو نہنہ پوری نہیں ہوں۔  
غدید اور اتریزوں میں بگون تکم دیکشی خزانہ علی رہی ہے۔ اجاتب حضرت میال صاحب کی محنت کاملہ و عاجلہ کے لئے اقسام سے دعا پر مباری رکھیں ہے۔  
حضرت مزا بشیر احمد صاحب کلم روپی کو خوب کے درد میں تو نسبتاً کمی ہے بلکہ میں شدید درد ہے۔ اجاتب محنت کاملہ و عاجلہ کے لئے دعا فراہمیں ہے۔

دبوہ ۲۵ جولائی۔ مکرم خیار افضل ہے

صاحب آتمہ بر سیان (دعا مباریہ محروم)  
مولفی عبدالحقور صاحب بریں سلسلہ) جو  
حضرت خلیفۃ المسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے  
قدیم صحابہ میں سے ہیں پر کل صبح دایں  
بانیت فابیج کا حمدہ ہوا۔ جلد کا  
ذیادہ اثر بازد پڑے۔ آپ جنکے  
پیسے ہی بہت کمزور ہیں۔ اس لئے  
اجاتب فاس طور پر آپ کی محنت کاملہ کے  
میں دعا فراہمیں ہے۔

دیگر ناقصین کو ایذا میں بحیثیت ہوئے ہوئے کی  
طریق پر ہزار کی الف لکھ تکرے ہیں۔ اور اس  
بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کبھی اس قسم کے  
فترپرداز مناقصین سے کسی کسی کوئی حقیقی  
تہذیب نہیں کر سکے گا۔ اور سبی اُن کی کسی بات  
کو تہذیب کرنے کے لئے کوئی تحریکی  
کوشش کر سکے گا۔

مخلص خداونم الاصحیہ کے لئے  
نیادوت بحدیقہ نظام الاصحیہ کو اپنے نوے سے  
بڑی پیشہ پڑیں ہوئے توں حصہ تبریزیہ الکاظمیہ کو اپنے نوے  
بچھے ۲۳ بوقتیہ بنا کر جسے بھی گی۔  
حضرت ایامِ اٹھاڑے کے شریعت دھمل ریوہ  
جس ایسا یہیں دعا ملکت شریعت دھمل ریوہ  
اٹھاڑے کو ساتھیوں نے اپنی تفاصیل کے

اجاتب الفعل ۲۵ کو پڑھ کر سخت مدد میں  
دانی کیا ہے۔

ایت الغفلة بید الله و تبریث تشاءمه  
حکمة ان یتعثث ریاث مقاماً محسداً

روزنماں

بدر محبشہ ۱۴۲۵

فوجہ چادر

# قضیل

جلد ۲۴ ۱۳۵۶ ۱۴۲۵ ۲۶ جولائی سال ۱۹۵۶ء نمبر ۱۷۲

## لبوہ کی ساجدیں شمع خلافت کے پراؤں کا جنماء طلت جان مال اور عزت کا مدارانہ

خلیفہ وقت کے کمی بندھواہ کو جماعت میں سرگزگی کی اشتہن کیا جائیگا  
دبوہ ۲۵ جولائی۔ کل شام نماز خوب کے بعد بدوہ کی صادمہ میں محلہ دار نظام کے محنت چیزیں مخفی کئے ہیں میں الغفلہ سے سید اس حضرت خلیفۃ المسیح ان نے اللہ امداد نے کاتا ذہ بینم تھے کہ میں مسٹانہ گا۔ اور یعنی بخا جوں کی سرگزگی اور گراوٹن کی مذکوہ  
کھنکتے ہوئے حضور ایامِ اٹھاڑے کی مددت میں عقیدت اور دوستی دیکھنے کی اطمینانی ہے۔ اور اس عکس پر دوسرا بیان کی اطمینانی ہے۔ اور اس عکس پر دوسرا بیان کی اطمینانی ہے۔  
حضرت میں اپنی جان مال کی کوئی بروہ بیکھ کریں گے۔ نیز روات مجلس خدام الاصحیہ رپڑے کی طرف سے حصہ تبریزیہ، امداد نامے کی خدمت پر بڑی  
کوئی ماحظہ نہ کے بنیات کا انتہار کیا گی۔ ذیل میں بعض ایجادیوں کی کارروائی اور مخصوص خدام الاصحیہ دبوہ مکہ فیصلہ کوئی پیشام کا ملن درج ہے۔  
لیکن یا کے۔

محلہ دار المحمد عربی  
دبوہ ۲۶ جولائی۔ بدر میں مغرب ایک  
 محلہ دار المحمد عربی کے خورہ کمال کا  
 غیر معبدی اعلان زیر صدارت چمڑی فرزند علی  
 صاحب پر بیڈڑست متفقہ بہ جبس میں یہ دنا  
 حضرت خلیفۃ المسیح الشان ایامِ اٹھاڑے  
 کا پیغمبر ایامِ اٹھاڑے کا درستہ پرداز  
 لگ ک خدا ہمارے دوست احمد رشید داد  
 ای پول۔ ہم اک سے نعمت کوئی ہے۔  
 اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی قلق نہیں ہوگا  
 اور حصہ راتہم کو قیعنی دلائی ہیں کہ ہمارا  
 سب کچھ حصہ رفاقت یہیں وقفت ہے اور  
 نعمت پر داد اُگوں سے اٹھاڑے پر اڑی طلبہ

## الجزائری یہود احتجاج اسرائیل پر یوسی ایشیک یہود فار کی طلاقا

لجزیرہ جو ہے ایسند کے طبقہ کے تعاون کی ہیں ہیں۔

دبوہ ۲۶ جولائی۔ گروہ شہزادہ اسٹرائل پر سر ایشیک کا ایک غیر مدد دفعہ  
ایڈر اسکے بیڈڑ عالم ایشیک احمد ریوہ صاحب سے ملنے کے سے مال پر گیا۔  
اور دا جو گھنگھے جانیں کے ساتھ سر طرح کے قادن کا یقین دلایا۔ کافی دیر کمک انجیز اٹھ  
کی جگہ ڈوڈی کے ملاقات پر لگھو ہر قی

ہر قی۔ ایک سوال کے جواب میں ملامہ  
بیشہ الارابی کے فرمائی کہ ہمارا حسن  
تین بانوں پر مشتمل ہے۔ اول۔ عالم اسلام  
کو ملالات میں آگاہ کرنا۔ دوم ان سے  
مظلومین الجائز کے سے ایک یہیکا سے غیر ملاتین  
کرنا۔ سوم مسلمان عالم میں بدبات اخوت

ایڈر اسٹرائل۔ نکشن دین تحریر ہے اسے ایں ایں بدی





چیز ای کے نے فرنی ناون بھی جان پڑا۔ وہ  
وزیر حکومت سرالیون و اس پر یہ یوں  
پیلے پارن اور بعض روزانہ بفتہ دار  
اجراات کے ایڈیٹر دل سے علاقہ تحریکیں  
اور لٹریچر تھیں کیا۔

مسح احمدی فرنی ناون میں ماہ وضو  
کے دنوں میں جک ایک فامی قداد غیر احمدی  
اصحاب کی بھی خلاف تاویج کے لئے ماضی  
ہے دیکھ رہے ہیں جن میں احمدیت کی صافت  
و امتحن کی اور مسلمانوں کو اپنے اعمال و کردار  
سے اسلام کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی خواہ  
وجہ دلتی۔

اس بخوبی دلچسپی میں مخفی گجر کا میر  
قیام کیا۔ رواں پر ادش، بچ کھنچ احمدی اور  
پڑا لفڑی سب سچ کوئی نظری سے بھروسکوں کے  
عقول صاحبات پر بابت چوتی نہیں ہے بلکہ  
جگہ کا سکول کے لئے قلبًا ماضی کرنے کے  
لئے تحریک کیا جاتی ہی۔ جس سے خدا تعالیٰ  
فضل سے تاد میں دو دن افزول احتفاظ ہوتا  
رہا۔

مسجد احمدیہ ٹیکیوں کا جو زیر تعمیر ہے۔  
اس کے کام کی تکرانی اور جماعت میں فرمی  
چند کی تحریک کی تھی۔ جس پر بعض احمدی  
نے مذید رقصہ ادا کیں۔ اس سے مسجد پر فرمی  
100 پرنسپر کے خرچ کا نہ رہا۔ اور  
حدائق کے فضل سے بھی۔ احمدیہ مسجد کا کو  
کہا تھا کہ جو احمدیہ مسجد کا کوئی  
اس سوچ و مدد کے اٹھانے اور مسجد کی تکمیل  
کی تو خیل بخشنے

### دونوں جماعتوں کا قیام

اس عرصہ میں خاک رئے متعدد والیوں کا  
کے تین میں دو دن کا گاؤں میں جا کر تین  
لی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دہلی دو  
نی جماعتوں کا قیام میں آیا۔ الحمد للہ  
علیٰ ذکر اک.

### تبیینی سفر

ماہ نئی کے آخر میں نکم مردوںی محمد احمد  
صاحب ثقة مگرور کا انتشاریت کے اور  
خاک در مشن و سکول کا چادرخان کے پرہ  
کرستے ہوئے مینڈے سے علاقہ کے دورہ پر  
رودھ ہوئوا۔ چاچوں کی تھنعت جماعتوں کا  
دورہ ہی اور رحیمات میں کچھ عمدہ قیام  
کیا جا بھاگت کی تربیت داصلاح  
کی اور ان کے اندرونی عقص دینی درج اور جہہ  
قیام باقی دن شاد پیدا کرنے کی کوشش  
کی۔ بیرون جماعتوں کے چند دو کوشا  
کو موصی کی۔

بس کل ہیں جس کی تہذیب میں ایک احمدی

## سیرالیون (مغربی افریقہ) میں اسلام کی نشأۃ ثابت کے افحش اثار ۸۹

الدعایہ کی محجزہ زانہ تائید و نصرت کے ایمان افروزانے کے  
ساہہ اشخاص کا قبول اسلام۔ دو نئی جماعتوں کا قیام  
مسلم پریس کے قیام کیلئے افریقہ نو مسلموں کی قابل تعریف مالی قریبائی

### سیرالیون احمدیہ شن کی سماہی لپورٹ

از سکون مولوی محمد صدیق صاحب شد جلد سیکڑی سیرالیون شن

(جبوت و کالم تجشیہ روہ دستطہ)

دعا فرائیں کہ خدا تعالیٰ اس ممالک میں بیہ  
کا بیانی عطا فرائی  
کو طرف سے ٹالیں کہ دلکش کے خلاف مظاہرے  
اور ہمچ سے ہر ہے بیرونیں کی کافی سے  
زیادہ جان دلی انصھان ہوتا ہے۔ اور ہمارے  
بعض احمدی دوستوں کی جاندادوں کو بھی  
انصھان پہنچا۔ آخر گورنر سرالیون کی  
طرف سے ایک انکواز ہالکیت بخیا جائے  
جو اب ممالکات کی تحقیق کردہ ہے۔ جس  
سے اب کو ایک عہدات من و سکون  
پیدا ہو چکا ہے۔ مگر پھر ہی تاہلیں کی  
ادائی ہیں پڑی۔ سرکشی و ہبے ہارے  
سکول کی عمارت پر بھی۔ تا خیر داشت  
ہو رہے ہیں۔ اس علاقے میں شروع سال سے حکومت  
کے قدر کی طرف قدم دلانی۔

دہلی ہمارے سکول کی عمارت بارجہ  
گورنمنٹ سال سے منتظر ہو جانے کے لئے  
تک شروع ہیں ہیں۔ اس کی درہلی دیری  
ہے کہ اس علاقے میں شروع سال سے حکومت  
کے قدر سے ۷۰ پونز کی تقدیر قائم ہوئی  
اور اب اپنی مکانیں تحریر کا کام کر رہا ہے  
ہیں۔

### تربریت و صلاح

گورنر کا جماعت کی تربیت و اصلاح  
کے میں بڑا تاثر و شام آپ فریاد  
سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور  
قرآن کریم و حدیث کے مثال بیان کئے  
جاتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی مولوی صاحب  
شہر میں پھر کسب و موقوفہ تھیں  
بجا طاقت میں اور سلسلہ کا طریقہ تقویم  
فرمخت کرتے ہیں۔

### خاکار کا سفر و لوگوں کو

فاکر نے عرسہ زیر لپورٹ تبیہ  
سازدی سفر اور تیعنی دو موقع میں اگزارہ  
اپنی کے شروع میں دو کوپ کا سفر کیا اور  
دہلی کی مسجد کے سینے چند جمیع کی جو شہر  
سال جمکان مسجد کے سینے خریدا گی تھا۔  
اکی رقم یعنی ۳۰۰ روپزدہ بھی تقابل  
ادامتے۔ مو فاکر کو خدا تعالیٰ نے اس  
سفر میں وہ رقم جمع کرنے کی توفیقی جیسی۔ مگر  
مالک مکان حواس کا دل کا حصہ ہے۔  
بعض وجہات کی بنوار ایسی تک مکان پر  
قبضہ دینے کے لئے تیار نہیں۔ احباب

(ملفوظات)

# تحریک جدید کے مطالبات کی تتمیت

(اذکر مولوی ناصر صنف)

بھندرہ افریز کے مطالبات میں سے یوں تو  
ہر ایک مطالباً بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن  
وقت زندگی کا مطالباً بہت سے بڑا اور اہم  
مطالباً ہے۔ اور اس مطالباً میں پوچھا جائے کہ  
یہ اس کے مقابلہ میں کہا جائے؟ اور دوسرے فرقے کے  
لئے کوئی بھی ہے۔ تو حکوم پڑھتا ہے۔ کہ دوسرے  
فرستے بالکل عاجز اور درماننہ ہیں۔ اور ان کے  
لیے درود کی اس سلسلہ میں کوئی بات ہی نہ ہے۔  
لیکن سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ علیہ السلام  
بھندرہ افریز سے وقت زندگی کی تحریک فرمائی۔  
تو سینکڑوں احباب نے اپنی زندگیان وقت  
گرفتی۔ جو سیر دنیا میں جا کر تو قوتِ الامر  
کے گذار پر اسلامی صد مات بجا لایا ہے۔  
کہنے کو وقت زندگی مولوی مطالبہ معلوم ہوتا  
ہے۔ مگر حقیقت ہے۔ کہ اس کی قبولیت اس  
وں نکل گی۔ کہ راجہان اس کی نظر پر میش  
کرنے سے عاجز ہے۔ وقت زندگی کیسے ہے؟  
ایک شخص اپنے پہنچوں کا قلمبندی کرتا ہے، پر اپنی  
پاس کروتا ہے۔ پس بدل کر دادا مانے، پھر  
میرٹ کروتا ہے۔ پھر ایسے اسے اندھے  
کروتا ہے۔ پھر زلم اسے اور ایم ایس سی کروتا  
ہے۔ پاکستانی ناطقین کروتا ہے۔ اور خدا کرو اور  
وکل کے مختاران پاک کرو اس کی زندگی  
کو خیڈے وقت کے سامنے پیش کر دیتا ہے،  
کہ جہاں حضور چاہیں۔ اس سے خدمتِ اسلام  
کا کام منظور ہوتا ہے تو اس کے سامان  
ہیزا فرماتا ہے۔ تو اس وقت کے سامان  
کو اس طرز کا علم میں پیش کرنے کے تھے حضرت مولیع  
مرحومہ احمد ادھر اودود کے ذریعہ تحریک جدید  
کے مطالبات کی بیان کی ورثات کی اور ان مطالبات  
میں خدا تعالیٰ کے پیشے پرست کو قبولیت  
کو صورت پیش کرتی ہے۔ مگر پھر جلد شکلات کو  
دیکھ کر۔ اور جما لیعنی کونا کام کرے۔  
مکمل حالات اور آپ دہوا کے  
پیش نظر پاکستانی معاشرین قام طور پر  
بیمار رہتے ہیں۔ اور صحتیں (پتی) ہتیں۔  
احباب ان کی صحت اور لمبا عمر صد مدت  
ایسیم کی توفیق ملنے کے لئے دعا  
فرمائیں۔

زوجہ کا مطالباً کیا۔ جلد پر اپنے ایک دوست  
ٹھوڑے زیادہ برلس سڑک دکھایا۔ سو خاصاً داشت  
اویں تھوڑے کی پیشانی دیکھی کے حدود تھے کیونکہ  
لور اب تریب جو حصہ میں اشادہ اللہ اے  
قاونی طور پر سنت کے نام لیز کردا ہے جائیگا۔

## نومبار العین

عرصہ زیر پوڑی خدا تعالیٰ کے نفلتے  
لوگوں پاکتی میں بیعنی کے ذریعہ کل ۴۰ افراد  
طفق بخوش اسلام ہوئے۔ اور دوستِ عاصم  
کا تیام عین میں آیا۔ وہاں اب مسامدہ قائم کر کے  
کی تحریک کی جاتی ہے۔ احباب دعا زیارتی کر  
اللہ تعالیٰ سب کا استغاثت بخش اسلام کے  
لئے ان کے وجود کو سارکہ ثابت کرے۔  
آخری قاریین سے درخواست ہے۔ اور  
سبعین سرالبرون کو اپنی دعائی می یاد رکھتے  
رہیں۔ کو خدا تعالیٰ کے مبارکہ شکشوں  
میں برکت ڈالتے۔ اور اسی مدد میں جلد از جلد  
اسلام و احمدیت کے پھیلنے کے سامان بھی  
پہنچا۔ اور ہماری جلد شکلات کو  
دیکھ کر۔ اور جما لیعنی کونا کام کرے۔  
اگر کوئے دوست چیز اور ان کے ذریعے  
دوستِ عطا تھات کی۔ اور اپنی ساقی لیکر  
بیٹھ جوں گی۔ اسیوں سے حقیقہ پورا لگائی  
کی۔ ٹراویث میں سالنگ کا خیصہ ہیں ہر سال  
کوئی پر اسی حقیقت کے پیشے ایک ماہ کی صلت پایا  
کہ اسی حضور میں وہ سیئی آخری میصلے سے  
اگر کوئے دوستِ عطا تھات کی۔ اسی مدد اقبالی  
وسی دسیں سیئی میسا میت کے مقابل کا سیالی  
عطافرماست۔

بیٹھا ہوں سے خاک اور ایک گھاؤں بنوں ہو  
گی۔ وہاں ایک عیسیٰ پیشہ اخونٹھیت کی  
ہیں کوئی سکول کھوٹے کی دوست دی ہے۔ جانچے وہاں  
تھیس کر ان سے مفضل گفتگو کی جائے۔ اور سکول کے لئے

## لعلیہ لیڈر و صفحہ ۲ سے آگے

گو شکشوں کو باطل کر دیا ہے۔ یہ تبلیغِ سلسلہ مشرق افریقہ میں بھاسالمی سال سے جاری ہے۔  
اسد گود، وہاں کام کی ابتداء ہے، اور اسی وجہ سے تائجِ ایسی اتنے شاہزادہ ہیں۔ پختے مزید افروز  
میں پیش کیوں پھر بھی عیسیٰ یوں ہی سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایسیدے کے  
چند سالی میں یہاں ابھی مبلغوں کا کوشاشیں اعلیٰ انسانی پیدا کر کے جائی گی۔ اندھی نیشن کا  
ٹھاکری میں ایک طبقے عرصہ میں مشتمل تھا۔ اور اسلام کے مذاہد کے گروہوں کو  
ٹھاکری کے جم کرنے اور ناٹھاکر کے دشمن کے مقابل پر کھڑکا کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔  
یونیورسٹی میں اسی طبقے میں اب اس سے آگے پہنچے ہیں۔ وہاں بھی جو سال  
سے احمدی میں کام کر رہے ہیں۔ اور میر احمد باشدہ اے امریکے کے جھی بیچکے ہیں۔ اور  
ہزار ہزار ہی سال میں تبلیغ اسلام پر خوب کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دولت کے مقابلہ میں یہ کچھ  
بھی نہیں۔ اور وہاں کے پا دریوں کی کوششیں اعلیٰ طبقے میں اسکی کوششیں۔ لیکن  
مکمل تو ہے۔ کو مقابلاً شروع کر دیا گی اے۔ اور فتحِ حرم کو موری ہے۔ کیونکہ یہ عیسیٰ کی جاگت  
کے آدمی چین کو اپنی طرف لارہے ہیں۔ عیسیٰ جاگت جاری ہے آدمی چین کو ہنس لے جا  
رہے۔ پس یہ ہیں کہنے چاہیے کہ احمدیت اے ایک ایسی جاگت تا تم کر دیں۔ جسکے اسے پہنچ کری جاگت ہیں۔  
اور کیوں یہ تابل اعترافی بات ہے۔ یا قابل تقریب بات یہے۔ (احمدیت کا معنام)

## ضروری تصحیح

الفصل مردم ۳۲ جولائی ۱۹۷۴ء میں جو خطہ جمعہ شام ہوا ہے۔ اس کے صفحہ ۳ کام میں  
کہا گیا ہے کہ عطا لیے "آسٹریلیا" کو جائے۔ آسٹریلیا "چھپ گیا ہے۔ دادا  
اس عملی کے لئے مددت خواہ ہے۔ احباب تصحیح فرمائیں۔

درخواستِ دعا، ایک بیردن لکھیں  
میرے راستہ داروں کو (احمدیت کو) دوچیت  
بہت تکیدیت ہے۔ احباب دعا زیارتی اے۔ انہوں  
کی تکلیفوں کو دو فرمائے۔ ایک سرخ گھنی کی

بکری نکودہ صرف نہیں بلکہ  
عقیدہ کی وجہ سے قانون اسلامی کے مطابق  
ذمہ دہ بے شکر کے حق سے محروم پر جائے گا۔  
نحوہ بالآخر من ذمہ۔

تعجب ہے کہ کہہ ہب اسلام میں بھروسہ اگر کوئی  
لے کر دعویٰ کرو، میں تو اپنی آیات کو ظفرنداز  
کر جاتے ہوں۔ لیعنہ کوئی شرعاً اعد عبیین کو، بناًۃ قبیل  
علی قزادہ سے سے ہوں۔ اور بھروسہ ذیکر کے پس  
دھونے کی صفات کے سے ان کو آیات بھی  
نہیں ملتی۔ جسے پیش کر سکیں۔

لیکن اور بھوسے عزیز فرمادیں، تو اپ  
کو معلوم پہنچا کر ان لوگوں کو بھروسہ کر کر اس کا عقیدہ  
کس قدر مفعکہ خیز ہے۔ یہ لوگ اپنے نئے نویں  
پسند کرتے ہیں کہ اپنی خیز مکملوں میں تینہ امام  
اور اخلاق دار نئے کی آزادی حاصل ہو۔ وہ بھروسہ  
عیسیٰ، مسیح و مکھے جسے چاہیں اسی کے نزدیک  
سے مر تک کے اسلام میں دخل کریں تو کافی  
کی کوئی روک نہیں پہنچی چاہیے۔ لیکن بھ  
غیر مکملوں کے تینہ کرنے کی باری ائمہ گی تو  
یہ پیارا تصور ہے کہ کھوئے مر جا گئے دو  
حلاں میں سے اعلان کریں گے۔

۴۰م اسلامی حکومت میں اسلام کے بالمقابل  
کسی دوسری دعوت کے اٹھے اور پیشی کو جوست  
پس کر سکتے۔

۳۹۸ہ اگر اسلام اور اس کے دعاء میں وحدتی  
استے ہی کردار ہیں کہ ہر خیز مکمل کو مقابله کو اور  
سے کروں۔ لیکن داعی و پیارے سے تقدیر بھی پر کر کے  
یقین ہر کتنا ہے۔ اس طبقہ اور دیگر مصطفیٰ  
درین کار کو اسلام ملے دوں کا یہی دوسرے نہیں ہے  
پورا سادہ فرجن سے اگر کوئی بھلہ باس ان  
پر پھیے کر کر اپ کی طرح غیر مکمل حکومتوں میں اپنے  
اپنے نزدیک کے ملکوں اسی قسم کا قانون  
بناؤں گیں۔ تو تینہ اسلام کی پیدا صورت پر گل۔ تو  
ذمہ دہ بھروسہ ہیں۔ دھوکہ صورت شاہد ہے

بھی تسلیم کرے۔ انجام دھی اقامت کی ذکر کردہ  
بالکلیٰ نے اس قرارداد سے کوئی اس  
تعلیم اسلام کی فضیلت کا بھوس تھیں  
صدی عیسیٰ میں ناول برحق حق اقرار کیا  
ہے۔ اور دوسری پوچھ کر دیا ہے کہ مذکوری  
آزادی کا جس کو اونچ بھوسی صدی میں ان  
کا پیدا اتنی حق قرار دی جا رہا ہے۔ اسلام  
سے ہر درب شرکے نئے اونچ سے قریباً چڑھہ  
سو برس پیشتر اعلان کیا تھا۔

باد جو دیکھ آج اقامت مخدود تھے مجھے  
اسلام کے اعلان آزادی کا ضمیر دیکھ دیا  
کے حالات سے خوب دافت ہے۔

علاوه اس کے امنہ تقاضے نے صاف اور  
صریح الفاظ میں اپنے رسول کو مخالف  
کر کے خرایا۔

## اسلام اور مذکوری آزادی

(دہن نامہ تعمیر نادلینہ ۵۴ جولائی ۱۹۶۷ء)

۱۔ اسلام ہر ایک گویندہ آزادی دیتا ہے  
دوسرے صبب عقیدہ کے معامل میں قطعاً جزو  
اکواہ کی احیات نہیں دیتا۔ بلکہ پشتہ فرضیہ  
متاثر مختلف رنگوں میں اس کی تزیید کرتا

چنانچہ ارشاد بادی تقاضے کے دین  
میں کی قسم کا اکواہ حالت نہیں۔ اور حقیقتاً دیتی  
... میں میں کا تعلق ان ان کے قلب سے  
کے کسب ایمان لے آئے تو کی  
دوگوں کو بخوبی کے گا کرد وہب  
درست ہے کہ اسلام ایک حارہ امنہ دب  
ہے۔ اور تواریخ کے زد سے چھیڑا ہے۔  
العیاذ باللہ۔

۲۔ مذکوری میں صاحب میں صرف جزو  
اکواہ کو استفادہ منونا ہا۔ میں صرف جزو  
فرمودیں دیتے۔ اور میں دے دے دے۔ بلکہ

ایک تدریجی پڑھ کر ترقی رکھ کر دین کے  
اس نیت مسند کو اسلام کی فرم مذکوری  
سے بھائیوں شرعاً نہیں۔ ان کا کہا ہے کہ  
دوسرے پیارے رسول کے ذریعہ یہ اعلان کرتا  
ہے کہ آزادی کو اعلان کا مفترق حق

ہے۔ جو بھی نزدیک ہو جا ہے انتیار کرے  
اوہ بھی کوچاہے پھرڑ دے۔

۳۔ فرمان پاک کی اس ملن میں اصریح ہے  
اس قدر دو خیز اور غیر بھوس میں کوہہ کی تھیز  
کی تھیز بھیں میں ۱۰ اسلام نہیں آزادی اور  
حریت ضمیر کا سب سے بڑا عملیہ دار ہے اور  
ذمہ دہ بھروسہ کا اعلان اپنے خود صورت پیاروں  
اوہ دلکش دلکش سے کیکش کرتا ہے کہ آج دینا  
کی تمام اوقاہ اس دھوکے کی افادہ پست کا لیکم  
کرنے پر بھروسہ بھروسی میں۔ اور ہر ایک کوذمہ  
و خفیہ کے احتیار کرنے اور اس کی تبلیغ  
گستاخ کا حق دستے ہیں۔ چل پچھلے ۱۹۶۷ء  
میں پیارے دینوں اور کی ایک کیکش کی کافی غزوہ  
خود کے بعد سچی اور حقیقی کا اسکی حق

آزادی کو بھی بھائیوں اتفاق پر قدم کیا۔  
۴۔ اکھیوں اقامت کی ایک کیکش نے جانشی  
حقوق کے متعلق منتظر ہیا۔ کوئی  
بے یک بھی دخہ منتظر کی ہے جس  
کے پیسے میں پر فربش کے سے  
خواہ، تفسیر اور دہبہ کی کافی آزادی  
لذتیں کریں تھیں ہے۔ دقوکے دوسرے  
حد میں پر شفیق کا مذہب تبریزی کو  
اور دوسرے کو تبلیغ کرنے کا مذہب تیم  
کی گیا ہے۔

۵۔ درست ہے خوب دہ میں مذہب  
لے دیا اور دیا کے قائم اہل دہ بہ  
سے خواہ دہ ایک ایک بہ دیا ایتی  
بھروسہ بھیں۔ کیتھے کہ دیجئے میں  
تم اسلام دستے ہیں؟ آزادہ کسان  
کو جائیں۔ دھندا کا میسٹر مانشے کے  
سلسلہ تیار ہو جائیں تو وہ یقین  
لوگوں نکل پہنچا دیا ہے۔ اور

۶۔ دوسرے صبب عقیدہ کے معامل میں قطعاً جزو  
اکواہ کی احیات نہیں دیتا۔ بلکہ پشتہ فرضیہ  
متاثر مختلف رنگوں میں اس کی تزیید کرتا

چنانچہ ارشاد بادی تقاضے کے دین  
میں کی قسم کا اکواہ حالت نہیں۔ اور حقیقتاً دیتی  
... میں میں کا تعلق ان ان کے قلب سے  
کے کسب ایمان لے آئے تو جو اسکی ہے میں  
دوگوں کو بخوبی کے گا کرد وہب  
کے کوئی بھائیوں میں سکت کریں جو آزادی میں  
کوئی شخوص یہاں بھیں لا سکتے۔

کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے اور  
چہا بیت کا درست ایک ایتی کے دہن  
سے باطل دو خیز بھوپال ہے۔

اس سے اگر کوئی دشہ کا درست اختیار  
کرنا چاہیے تو یہ آسانی کر سکتے ہے میں کے  
تو یہ اس کا خصوص رہے۔ جو دو اکواہ میں کے  
اصالہ میں جائز نہیں بھی کوئی جو جزو جزا اسرا  
کا مخفی نہیں ہے سکتا۔

یہ اور جلد اور دہن دہن ہے۔

۷۔ مسلسل سول قسم ایں ہا۔ ایک  
کے حمیتے کی میں تو خیمن خدا کی دانہوں  
کو مد نکر دکھکا اس کی مجادت کرتا  
ہے۔ میں میں کے مسلم حسین کو چاہا  
اس کی مجادت کر دن کا آزادی پر ہے۔

۸۔ عادہ ازیں فریاد کیا ہے کہ کنہادے  
سلسلہ تھا دینے سے۔ دوسرے شے میں دین  
بریک اپنے اعمالی جزا اسرا پا ہے۔

۹۔ اس سلسلہ میں ایک ایم ہات یہ ہے  
کہ اکٹھا تباہی تباہی تباہی تباہی  
سے خیمن عوت تبلیغ درست اسالت دیا دیا ہے میں  
لوگوں کو بخوبی سوتا۔ چنانچہ افلاطون تھے  
رسول کا کام صرف دلنشتھن نے کے پیمانہ کو

لوگوں نکل پہنچا دیا ہے۔ اور  
لے دیا اور دیا کے قائم اہل دہ بہ  
سے خواہ دہ ایک ایک بہ دیا ایتی  
بھروسہ بھیں۔ کیتھے کہ دیجئے میں  
تم اسلام دستے ہیں؟ آزادہ کسان  
کو جائیں۔ دھندا کا میسٹر مانشے کے  
سلسلہ تیار ہو جائیں تو وہ یقین  
لے دیا دست پر ہے۔

۱۰۔ یہ اکواہ مذہبیہ میں قوائی اپ  
تھیں ایک ایک دینا سے سلسلہ دو دین اپنے بیٹیں

## النصار اللہ مرکزیہ کا پہلا علمی تحریک

حس فضیلہ شوری انصار اللہ مرکزیہ کی طرف سے پہلا علمی تحریک بنایت علوہ کا خذل پڑھ کر اور  
حباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بخاطر اپنے احباب و تقصیں کو بھی پڑھتے  
پیش کر سکتے ہیں۔

احباب صرف محصول داک بھیج کو تفتہ والیں کر سکتے ہیں۔ جملہ زمانہ صاحب احمد افسوس  
انچی و پنچی مطلوب برقرار سے خود مطلع فرمائیں۔ ایک آنکے لئے ملکیت میں بکثرت سخت بھیج  
کر سکتے ہیں۔

### اطفال الاحسانیہ کے سالانہ اجتماع میں شامل ہو والے اطفال کے نئے ضروری اعلاء

اطفال الاحسانیہ کے سالانہ اجتماع میں شامل ہونے والے اطفال اس امر کو یاد رکھیں کہ:-

(۱) پہنچہ مناسب بستر ضرور لاٹیں۔

(۲) ایک عقلمند ان کے پاس ہونا چاہیے جن میں مندرجہ ذیل ایشیاء ضرور ہر قیمتی  
بیلٹ۔ ٹھیس۔ چاروں۔ حلقہ۔ پتے۔ سوئی۔ دھماکہ۔

(۳) بھیج رکھنے کے لئے جادیں پردا لاطیں۔

وہم کے طبقہ کو سالانہ اجتماع کے نئے آنکے چند۔ اپنی بھوس میں بھیج کر اپنیا چاہیے۔  
ذریعہ۔ قاتلین حضرت سے گذرا کش سے کرو۔ اطفال سے چند سالانہ دعائی  
کے کوڑک میں بھجوادیں۔ جسم اطفال پردازیہ پرداز

### چکلہ دویش نوں کے معاون نائب صدر صاحب احمد گزارش

چکلہ دویش نوں کے معاون نائب صدر صاحب احمد گزارش سے درخواست ہے کہ ان کی خدمت میں  
ان سے متعلق جو اس کے بارہ میں اطلاع کی جا چکی ہے کہ وہ کیا تک مالی فرمہ داریوں سے  
عینہہ پر آپریکیں۔ بہ سال دراں ختم ہوئے تو ہے صرف پہنچہ ماقی میں۔ لہذا امید کی جاتی ہے  
کہ وہ اس سلسلہ میں جو اس کو پسند کر کے مرکز کا پوری طرح باقاعدہ تابعیں گے۔ تاسال دراں اور  
سال انکو مشترکہ کے بغایا جات اس سال صاف پر فائیں دو آئندہ اس میدان میں بیمارا  
قدم نظر کی طرف نہ ڈال سکے۔ میرتیں والیں جو خدام الاحسانیہ مرکزیہ

### درخواستہائے دعا

(۱) یہ سے محروم بھائی پورہ کی محروم صاحب کی دلیلی محروم بھرہ سے بیمار چلی آرہی ہیں  
پورہ کان کو اس دعی فرائیں کہ امداد فرائیں۔ اپنیں شفا کے سامنے کے سامنے درازی غریغطا  
فرائیں کے لئے اور خادر دین بارے آئیں۔

عبدالحید کارکن دفتر خدام الاحسانیہ دار

(۲) یہ سری مختار دسردار میگر صاحب کا ڈاپریشن ہوئے۔ پورہ کان سلسلہ دعا فرائیں کے انتہا  
مریضی کو جلد صحت کا خدا جعل خطا فراہم۔

(۳) یہ سری مختار دعا فرائیں کو پورہ کان سلسلہ دعا فرائیں کا انشنا ٹالے اپنیں  
شفا کے کام عطا فرائے۔ آئیں

حاجی احمد ہمیں کا باد بھرت

(۴) یہ سری بچی عرصہ میں ہادی سے بیمار چلی آرہی ہے احباب کرام دعا فرائیں کو  
درست تھا ڈالے سے بحث کا مطلب عطا فرائے۔ آئیں

بیش رحم جن افلاطون میں دلپور

(۵) یہ راجح حید ائمہ مبارک رسول مکمل میں آخی ایمتحان دے رہا ہے۔ پورہ کان اور  
حباب سے عجز از من من پسے کو کو بچے کی نیازیں کا میاں کیلئے دعا فرائیں۔ ابوالمرار اس پرداز

(۶) بندہ کے والد حبوبی حسینی بخش صاحب مالی چک لکھ دفعہ تھیں عاصی پورہ  
وہ لے عرصہ دراں سے کوئی نشانہ کوڑی مروں میں بیماریں۔ کوڑی دعا فرائیں ہے۔ احباب د  
پورہ کان سلسلہ درد دل سے دعا فرائیں کو مفترقا ٹالے یہرے والد صاحب کو شفا کے کام درجہ  
علیاً فرائے۔ آئیں۔

ذخیرہ حمد والی شیخ فخر ہاؤ داد دو تک سندھ

(۷) یہ سے ایک دوست کی دلیل سخت بیماریں تکوہ نیازیں کا خدا جعلی  
سے دعا کی درخواست کرنے ہیں۔ احباب درد دل سے دعا فرائیں کو دنیا تھائے  
شفا کے کام عطا فرائے۔ آئیں

عبدالسلام پورہ زاسکن ڈیلہ پر کھوڑیان

## سادہ زندگی۔ لباس

لباس کی خوشی پر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ میکن عام طور پر لباس کے عام معنی زینت سے نکل کر  
خوشی دوڑھیں کی طرف پہنچنے ہیں۔ لباس کی زینت کا بارہ دفعہ تھکر کو مستردات کے سامنے ہے۔ اس سے  
حضور نے باری کے صرفت میں زیادہ تو مستردات کو خاطر بخواہی ملے ہے۔ یہاں افراد ہے کہ جمیں ان  
مستردات کو ان کے خصوصی صلقوں میں زیادہ اسٹاٹسٹ کیں۔

پر کہاں میں۔ عورتیں بھی اپنے پہنچنے کا ملکہ خوبی کا صورت یہ ہے۔ وہ مصنوعی یا خالی یا بیک  
گھر۔ جو عورتیں اس تحریکیں اٹاں ہوں، وہ کوئی کاری اور خلیفہ دفعہ خوبی ہے۔

بیک ہو بیک بیک اس کا ملکہ خوبی کا جانکاری ہے۔

ساواہ لباس۔ لباس میں سادگی پر کوئی پورے کا ہی یہ تجھے ہے کہ امیر دار عزم ہوں میں بھی میں  
فرتا ہے۔ درحقیقت لباس میں اتنا تکلف ہو اساؤنی میں تقدیر پیدا کرنے کا ہو جس بروہ بائے  
کہ اپنے پسندیدہ ہے اور نہ پسند کرنے والا ہے۔

تابہ محدث خدام الاحسانیہ مکاری پر لبڑہ

### دورہ ۸ پیکٹر و صایا

اس بیداری اس اپنے پیکٹر و صایا کو ریاست پہاڑی پر درس خدمہ کے خدمہ کے لئے کے  
سے جھیل کیا ہے۔ اسراز صاحب احمد گزارش کا ملکہ خوبی دار جماعت کی

خدمت میں بندہ رہیں، میلان پر اگلے گزارش کی جاتی ہے وہ سر بانی فردا کو ان کے سامنے تھاون دیا کر عنادش  
پا جوہر پر ہوں۔ دنسپکٹر و صایا کا کام فتحی دھرا کیا تھا کوئی کھرپکارنا۔ بیقا جات کی بھوکی کی طرف قدم  
دیا۔ خارج ہے اصل آمد کا پر کوئی اور بلا فضیل رقہ کی تفصیل حاصل کرنا ہے۔

سیکٹری جوں کارپور دار رہوں

### مختان

شعاع قلیلی جوں خدام الاحسانیہ مرکزیہ کی طرف سے فیری سے ماری کے سامنے کے تھیں  
فوق اس کے دس سو اساتھ کے جو باتیں تھیں۔ قاتلین خدام الاحسانیہ اس کتاب کا مختان  
رہتے طور پر ہیں اور تھا مجھ سے ترکہ پو اٹھائے دیں۔ یہ سری مختار بھی جوں لکھتے ہیں  
اکتہ سلسلہ تھا کہ ہے۔

صھریمیں جوں خدام الاحسانیہ مکاری پر لبڑہ سے لائی ہے۔

### ایک احمدی طالب علم کی مہاں اس کا صایا

اساں میاں تسلیم کا کام لامور کے لیکے احمدی طالب علم وکیل ایک احمدی مختان کے ملکہ خوبی

خاص اس اسٹریٹریٹر کے زیاد میں اپنے کوئی تھیں۔ میکن اپنے پیکٹر و صایا میں ۳۹۸ نمبر پر  
کے فرست گورنمنٹ ہوکاری میں دوسری فریڈریک ہاؤس میں کی ہے۔ الحمد للہ!

احباب کام دعا فرائیں کو عزم ہو کر کیا جائی خدا تعالیٰ مبارک کرے ادد آئندہ

دینی و دنیاوی ترقی سے کامیاب یہ ہے۔ آئیں۔

### اعانت ۱ لفظ

کرم سعقول حسین ماحسین پر کام کی تھی نے ملین پانچ روپے کی تھیں کے نام ساری  
ہبریلی خطر بڑا کرے کی عزم سے بھو اسے بیس جن اہلسن الحدا

احباب دعا فرائیں کو انشنا ٹالے سعقول اسین صاحب کو دینی درد دنیاوی نعمتوں  
کے ادد آئندہ۔ (سینجرا افضل دوہ)

ضفر درست اسٹریٹریٹر کی حم خود ہائے زینت کے زینتیں پر کام کی تھے جوں اور زیندگی  
کے بخوبی رکھتے ہوں۔ تھوڑا نیں سوہنے پر سالانہ اور زمین من کشم فی کس سالانہ  
بیکی۔ سعیں سعقول دھرم بخاری چک مللا یافت کیا جائے اور ملکے میانیں



